



بچت کیجئے، کل کے قیمتی لمحات کیلئے آج!



آجکل، آپ کے بچوں کی شادی، سرمائے کا تقاضہ کرتی ہے۔ ایم سی بی ڈریم ویڈنگ ایک مناسب ویڈنگ ایک مناسب طریقہ کار سے مقررہ مدت میں آپ کے بچوں کی شادی کے اخراجات کیلئے ایک مناسب فنڈ جمع کرنے میں آپ کی مدد کرتا ہے۔ یہ پلان آپ کو ہائی ویلیو بچت کی ضمانت دیتا ہے زندگی کی نیچے کا تحفظ اور آپ کی ضرورت کے مطابق فوائد حاصل کرنے کے مواقع میسر کر کے آپ کو ”ہر پل محفوظ“ بناتا ہے۔

#### فوائد:

- ”میرج کنٹی نیوشن“ بینیفٹ
- ”چوائس آف لائف“ بینیفٹ
- ”انجمنٹ سپورٹ“ بینیفٹ
- حادثاتی موت اور معذوری بینیفٹ
- فنڈ ایکسٹریکشن پر بیمہ (ایڈ ہاک فیچر)
- افراط زر کا تحفظ
- بچتوں تک رسائی
- جزوی اخلا
- مکمل سرینڈر

#### اضافی فوائد:

- انکم بینیفٹ
- پر بیمہ کی چھوٹ
- اضافی تحفظ

#### پالیسی، شرائط و اہلیت:

| کم سے کم حد عمر:               |        |
|--------------------------------|--------|
| 18 سال (اگلی سالگرہ کے وقت)    |        |
| زیادہ سے زیادہ حد عمر:         |        |
| 65 سال (اگلی سالگرہ کے وقت)    |        |
| کم سے کم پالیسی کی مدت:        | 10 سال |
| زیادہ سے زیادہ پالیسی کی مدت:  | 25 سال |
| میکسیمم زیادہ سے زیادہ حد عمر: | 75 سال |

#### ادائیگی کے طریقے:

- سالانہ
- ششماہی
- سہ ماہی
- ماہانہ

#### چارجز:

- انویسٹمنٹ مینجمنٹ چارجز: ماہانہ فنڈ کی ویلیو 0.125 فیصد
- بڈ/آفرا سپر یڈ: 5 فیصد ریٹریوگولر کنٹری بیوشن
- ایڈسٹریکشن فیس: 30 روپے ماہانہ

#### بنیادی پر بیمہ ایلوکیشن:

پالیسی کے پہلے سال سے، آپ کا ادا کردہ پر بیمہ کا ایک حصہ آپ کے اکاؤنٹ میں ڈال دیا جائے گا۔ حصے کا تناسب مندرجہ ذیل ہے۔

| پالیسی کا سال | مختص فیصد |
|---------------|-----------|
| 1             | 40%       |
| 2             | 80%       |
| 3 اور آگے     | 100%      |
| 11 سال سے     | 105%      |

#### فری لنگ پریڈ:

یہ پلان آپ کو 14 دن کا فری لنگ پریڈ مہیا کرتا ہے جس میں آپ ای ایف یو لائف سے رابطہ کر کے اپنی پالیسی (بیمہ) کو منسوخ کر سکتے ہیں اور آپ کی ادا کی گئی پر بیمہ آپ کو واپس ادا کر دی جائے گی۔ لیکن قانون کے مطابق کچھ چارجز کی کوٹنی ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ بیمہ خریدنے کے دوران معائنے کے لئے چارجز وغیرہ۔

#### ڈسکلیمر: (دست برداری)

- ایم سی بی بینک، ای ایف یو لائف کے لئے ایک تقسیم کار کے طور پر کام کر رہا ہے اور یہ کسی بھی طرح سے گارنٹی/کسٹمر اسکے فائدہ اٹھانے والے/والوں/یا کسی بھی اور تیسرے فریق کا ذمہ داری نہیں۔
- ایم سی بی ڈریم ویڈنگ پلان کی تمام درخواستیں ای ایف یو لائف کے زیر دستخطی ہدایت کے مطابق عملدار آمد اور منظور کی جاتی ہیں۔ ایم سی بی بینک کسی بھی طرح سے ان درخواستوں پر عملدرآمد اور منظوری کا ذمہ دار نہیں۔
- یہ کتاچہ پالیسی میں مہیا کردہ فوائد کا صرف تعارف مہیا کرتا ہے۔ تفصیلی وضاحت کے لئے کہ معاہدہ کیسے کام کرتا ہے۔ قواعد و ضوابط میں دیا گیا ہے۔

#### EFU LIFE ASSURANCE LTD.

EFU Life House, Plot No.112, 8th East Street,  
Phase 1, DHA, Karachi, Pakistan.

Phone: (021) 111-EFU-111 (111-338-111)

Fax: (021) 34535079

Website: www.efulife.com